



## سوال

(53) حائضہ عورت کے لئے کتب تفسیر کا مطالعہ کرنا جائز ہے

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں ماہواری کے دوران جبکہ میں پاک نہیں ہوتی بسا اوقات تفسیر می کتب کا مطالعہ کرتی رہتی ہوں۔ میں اس طرح گناہ گار تو نہیں ہوتی؛ فتویٰ ارشاد فرمائیے۔ جزاکم اللہ خیرا

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حیض اور نفاس والی عورت کے لیے تفسیر می کتب کے مطالعہ میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح علماء کے صحیح قول کی رو سے قرآن مجید کو ہاتھ لگانے بغیر اس کی تلاوت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک جنبی کا تعلق ہے تو وہ غسل کرنے تک تلاوت قرآن نہیں کر سکتا، ہاں وہ کتب تفسیر اور کتب حدیث وغیرہ کا مطالعہ کر سکتا ہے، مگر تفسیر کے ضمن میں درج شدہ آیات قرآنی کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جنابت کے علاوہ کوئی حالت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن سے نہیں روکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ ایک حدیث کے الفاظ ملوں بھی ثابت ہیں:

(فَأَنَا نُجْنِبُ فَلَا، وَلَا آيَةٌ) (مسند احمد)

”جنبی آدمی ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتا۔“۔۔۔ شیخ ابن باز۔۔۔

حُذَّامَا عِنْدِي وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

فتاویٰ برائے خواتین

طہارت، صفحہ: 89

محدث فتویٰ